

ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 259-263

مَرَّ	قَرِيَّةٍ	خَاوِيَةً	عُرُوشٍ+هَا	فَ+أَمَاتَ+هُ
م ر ر	ق ر ي	خ و ي	ع ر ش + ضمير	حرف+م و ت + ضمير
گزرا	ایک بستی کے	گری ہوئی تھی	چھتوں کے + اپنی	تو+ مار دیا + اس کو
Passed	A township	overturned	It's roof	Then he was made to die

مِائَةً	عَامٍ	بَعَثَ+هُوَ	لَبِثَ+تَ	لَبِثَ+تُ
م ا ی	ع و م	ب ع ث + ضمير	ل ب ث + ضمير	ل ب ث + ضمير
سو	سال	اٹھایا + اس کو	ٹھہرے ہو + تم	ٹھہرا + میں
a hundred	Year	He raised him	you remained	I remained

الْعِظَامِ	نُ+نَشِزُ+هَا	نَ+كُسُو+هَا	أَرِنِ+يَ	فَ+خُذْ
ع ظ م	ضمير+ن ش ز + ضمير	ضمير+ک س و + ضمير	ر ا ی + ضمير	حرف+ ا خ ذ
ہڈیوں کے	ہم + جوڑ دیتے ہیں + ان کو	ہم + پہناتے ہیں + ان کو	تو دکھا + مجھ کو	پس + لے لو
The bones	We raise them	We cover them	Show me	Then take

حَبَّة	سَعِيَا	يَأْتِيْنَ + كَ	أَدْعُ + هُنَّ	فَ + صُرَّ + هُنَّ
ح ب ب	س ع ي	ا ت ي + ضمير	د ع و + ضمير	حرف + ص و ر + ضمير
ایک دانے کے ہے	دوڑتے ہوئے	وہ آجائیں گے + تیرے پاس	بلاؤ + ان کو	پھر + مائل کرو + ان کو
A grain	haste	they will come to you	Call them	Then incline them

يَتَّبَعُ + هَا	أَذَى	مَنَّا	سَبْعَ	أَنْبَتَتْ
ت ب ع + ضمير	ا ذ ي	م ن ن	س ب ع	ن ب ت
پیچھے آئے + اس کے	افیت دے کر	احسان جتا کر	سات	اس نے اگائیں
followed it	Hurt	reminders of generosity	Seven	which grows